

نوع الوثيقة : أوراق يلدیز الخاصة (Y. A. HUS.)
رقمها : ٢٣٦/٩٥
تاریخها : ٧ سبتمبر ١٣١١ رومي
 محل وجودها : الأرشيف العثماني بإسطنبول

صورة لبرقية وردت من ولاية الحجاز في التطورات الأخيرة لحادث الاعتداء على القنصل الأجنبية بجدة قبل أربعة أشهر من قبل أشقياء من بدو الحجاز. ومع البرقية وثائق أخرى عديدة تتعلق بالموضوع.

حکم اسلامی
مکانیزم اسلامی
مکانیزم اسلامی

نامه از معاشرین
از خواسته های اسلامی

حکایت معلمہ نہ طولانی انکhz و فرنگی مسوی برخا ایله فرنگوک و بیک منوفی عبارا ایلک عالمی و در فرنگوکاری
و بیک مسید برخرا ایله فرنگوک ز جان و تائید کی مسوی در دلیل نسبا ن و پیش راه بورضه انکhz و فرانز
دری و سفر ری طار خانزده رون منوعی دلیل نسبا باید عالیه بر قدر در لشکر بورضه بالکھ ایلکه باقیه طبع
ایم ز تواری فخر رون منوری بیکه عباره ریجیک حادیه لایه و فتوحه شریکه ضروریه آئی فروافس ایلکه البته ایلکه
رضه او حادیه فلایفه و خطه حیا ز ۱۷۱ خیبر کار و عالیه نایابه ایلکه کوش شرائیه ایلکه ایلکه دجه دله بیکه
اور ویاکه استندی کاملاً مسلیه او لیغه رطف والارنیه و ایلکه جانبه دلیل ناخدا خان ری خشم سکانه مکو دیکه
ورکاره صریعه نسبیات و خادیه ایلکه حادیه مذکوره میگیر ریخت عده ساره بیکه حادیه ایلکه او لر ایلکه
روز دنخ ایگاز او لر ایلکه و کانه سریان کاملاً حکم متبیه ایلکه - حیا ز ولایت مذکوب والارنیه و فتوحه دلیل
سریان ایلکه ایلکه مقدار و طبقه حکومت سب اولار سعادتمند ایلکه ز دم فطبیه عکس حادیه و فخری لاعداً خیل
بالیه عادی بیکه ایلکه ایلکه و طبقه ده و فتوحه کانه ناخدا شوئیه هے ایلکه دیگه روندک شونا خیل
رضه ایلکه
نظر رفت کامک ایلکه ایلکه

نظر رفت کامک ایلکه ایلکه

۷۲۰۲

۳۳۶/۹۵

حده هزاری فاعل بله در حال یجده عذر نیم ایلی کوید تا بر موضعه ایجادی خود حکومه مسونی نامه اصرار
الصیغه نیست آنها سچه بخواهی دو برجه جله طلب شمع اور این اتفاقه حکومه ایلی ای زاید دفعه ایلی
مسونی حکومت نیست عار اریاضه نشانه اتفاقه داده از این اور قیلو وزن اسلوب اینقدر کویه نمیگیره
مزونه ملک عده لکاریه احری میگازان تغییره و افاده میگازانه بی هادی روی و ولایه رامانیه و طاره
بیه نکارانه ایقمع شراف ایلی چه میگازانه تغییره و افاده میگازانه دفت ناید بری زنیه افظه و مادره
اریاضه حفظ فراز سپه بیه طرفه صوره تغییره و نوعه خوده و حاره ه متفوق اور اتفاقه توسعه
و گسترش دید توسعه میگزد این اتفاقه نشانه دلیلی
نفه همینه حد تکه نیم صوره متفوقه باید تغییره باید تغییره باید تغییره باید تغییره باید تغییره
در طبقه محبی ای زای لازم حکومت تایید بوراه میگزد همایند از تایید اینقدر تغییره اینقدر
ستیه فد و نوعی و صبا با زنگنه عدت اوزریه حماز و بیان راسه احمد رات تغییره اینقدر امر
هاده نکره
و صبا باهی حفظ تغییره طامه ایه و طف و لر طف رضی تایید لازمه طافه ایکار عقیل بوراه معرفه
از اینه لازم صوره کویه کوئیده مصدقت و مصعبه تایید رضی فد
ملعنه ایه بوجی بیه بوراه معرفه دلیلی ایه
مشهود برای دلیلی ایه
و اصلی میونه نه نکره
تفصیل ایه نیمه همیشه ایه مصونه کوئیده کوئیده کوئیده کوئیده کوئیده

نوع الوثيقة : أوراق يلدیز الخاصة (Y. A. HUS.)

رقمها : ٢٣٦/٩٥

تاریخها : ٧ سبتمبر ١٣١١ رومني

محل وجودها : الأرشيف العثماني بإستانبول

صورة لبرقية وردت من ولاية الحجاز في التطورات الأخيرة لحادث الاعتداء على القنصلية الأجنبية بجدة قبل أربعة أشهر من قبل أشقياء من بدو الحجاز. ومع البرقية وثائق أخرى عديدة تتعلق بالموضوع.

حده خادمه سی دعید بکه ره خادمه عالی تبرم ایکی کوئه ناید مقضیه ایکاری خونه خونه میوویسے نامه اصرار
 ایکی نیپیت آنچھا سبھ بیورا لیچھنے دو بریہ جلدی بھلپ سفع اولرا ایکھڈه خونسلک آنبا ایکارا یا مصلحتیں
 سوئیں خوت نیہ عاصہ ایکھنے نصہ ایکھڈه دادرادہ کا اور بیالولل اندر ب اسیدہ کوئه نجیبہ
 مرفوم نک عجہ لکھائیہ ایکی بیزان تکلیفہ و افادہ میانہ بی خادی رویہ و ولیہ و اماریک خدا
 بیخ نکارانہ لری ایقمع سراف ایکی بیزو منی سرلک ملرا ضاعہ دفت نا دیہی زونی ایضہ و ملہ
 در پھن خف فزار سپدیڑی طرفہ نصعیخ بیخیاہ و فوجی خلکیہ و خارجہ متفوق اولرا ایکھڈہ فوشنہ
 و بکیع دید نوندیہ ملوریہ طب اولیہ مظاہرہ نصیباہ دلیس رضی صیہ نجیباہ بی را پھن
 نفہ ہیہندہ صد تکہ نک صویٹ منظر فیله بی بی نصیب فوجی بیانہ شاہنہ مروف ایکھنے حالت
 دلیسے ملیکی ای زی لوزم صد نایر بورا همیوں جو بیدرل اولیہ بیہ نیا خفہ بہ اسناہ
 تیزیہ نہ و فوجو بہ رہایا زنکاف خدی اوزیریہ خیاز رویی داسی احمدیت سچھنہ بہ اسناہ
 خادیہ ملکوہ دعید بکت اسپیا لاری نایبہ بیہ صورت اولیچہ و زیریک خفہ دیزینه بیورن اولر
 و دصایا سے خف نصیباہ طامہ ایت و طف دلزیٹ رضی نایز زمیٹ طافہ ایکارنیس بیورہ برفہ
 ایکارمہ لوزم خرقدہ کوئہ کوئید بکت مصادف و صمعیتہ نایر رضی فہ فیک نصیبہ اولیہ سدھلے بیانی
 ملک ایمبوو سیچہ بور فضیلہ دلیتیہ ارلیہ صویٹ متفوق شراف کوئی لیٹیج و خادیہ ملکوہ بکیع ایکھنے
 سیور بکار و سیور یا لذت و سیور و دلیل جو وحیت ایکھڈہ فوشنہ دلیل دیکی عذر زانیت متفویتی امرویو ایکھنے
 و ایک میونہ نے قلہ نصیبا نیفیت فویک ایکھا فیک ایکھنے ملک ایکھنے ملک ایکھنے ملک ایکھنے
 مضا ایکارہ نسبتہ ہیسکی ایکھنے مصکنہ کوئی ایکھنے ایکارہ نسبتہ خفہ ملک ایکھنے هر چہ سر فضیلہ ایکارہ
 نیشور نسیفہ ایکارہ نیشور فرضہ ایکھنے لکھا ایکارہ ملک ایکھنے ملک ایکھنے ملک ایکھنے

شیلیک دھنور اور عورتی اپنی سو اسائے بیان اسیم نہاریلے والہ رائے افسد کوہا جانتے

سائنس ایسادہ تضاد نہیں تھیں ایساں دیلے انوری کوئی دو یونیورسٹی میں مدرسیہ مدرسیہ صاحب امور۔ مدرسے نہیں جدہ دو ہدایہ دھر رضھے اولیہ ولڈ کلیم دیکھوئی دھوائی کھوارہ

صحر دلائی اعدادہ ایکوہ جانبیاں یہ انجام دے دھوئے بلکہ سارہ سے راصفہ ایلمت تھیا دستے ای ویز بیساں زیر پرو یوسیب کیلیک صریخنڈھی نظراً جانبیہ طلبہ دو یوسادہ ایکار

تھیج ایکھنی دیڑھ دے ایسماں بھائیہ سلسلہ ایز فاعلیتیں سخی ایلپڑی خدا، حاہلکوہ کوئی

سر ایکار ایلپڑہ ایلپڑی محضہ۔ مکالمہ نہیں سواعد ایقمری ویہ صدھ و اضلاع ایلپڑی وصیفہ دلائیہ تبتہ۔ چالاکیہ سیاہہ ایلپڑہ قابی انکھا دیڑھ۔ ساری علیہ تعرصہ مکور

فاعلیتیں بدھاضاعہ، ویتے تاریخی وظیفہ ایتھنے نہیں اولینیہ دویں بیہم نامہ باعلیہ افخار

ایسے۔ وافیہ مھاتسرو ایسی اکاری مکالمہ بیسے ایسے ایکار ایسے بلکہ مساطرہ واریہ بوندھہ ھدا

نیا دہ تھوڑے ایسیہ جملے اولیہ بیھست موہاری نہایت ولکی ایکوہ ایکار بی ایسہ بیہم شرک نزدیکیں اولیں نہیں و ساطعہ ایسیہ ایسداری جو سادار ایز بیہم بیہم بیہم و حکومتیہ مہم کوڑی

اور یہ حلے صورتے ھے رہے رسمیہ ایسے بیہم بیہم رہا ایسیم اکر مکالمہ نہیں صلیعہ ایسے دیلہ

رنگ و براہیں لذتیں عالیتے ایتھی و قوم و قبیلے مجاہدین دھریں کیم ہمیہ مسیحیہ ایسے

کھنہ اولیہ جنم سعد ایسے حکمہ اولیہ جنم کیم ہمیہ مسیحیہ بیہم بیہم و بیہم بیہم



بُنْجَالِ الْكُوْنَجِيَّةِ
زَجْمَارَ الْمُطَنَّبِ

علیٰ

صلیل علیٰ اسپانیزی اولیٹی اور زرہ بصریٰ سوندھ دے اکے جدھہ ورپسہ فوسیوں ہی اعہد سندرہ بھٹکیڈی علیٰ نوچہ
و فویں پلیسہ دینزیلینڈہ روسیٰ فولکارس ٹولید موسیٰ، سلند ہر کھی بلوسے ایک اندر بروج اولیہ بیانہ صفاہ نیللہ دیاریہ
سولکی۔ اللہنیٰ صوریک ناٹرائی سسیمیزہ صلایہ ملہنے صنایتے و فرمیگا سلیک چنڈے ولیسے میسری راصنہ فلکیٰ فیلسیڈے بڑے منوب
اوپر بوسیلر خانویہ بکھریم سسلوم ایلکوی دھفندہ ترتبہ محیاۓ اسیمکھ جذبے مکھاں ہیونہ فلمیٰ واکیساٰ وعدہ لیپنیٰ ملکہ
اسبیعہ قدر۔ ناڈیسے اونیوریکی درستیلہ ایڈلکلکر۔ تھواسینکیت روپیہ کاہ لالیاک مکھنیتی سنا مکدریہ عورتی و کلاہ
اسیم فلترینی سواصلہ نیمدیہ ایسٹسیکی بعدہ حفاظت عریتہ مکھہ ایکیں ام اونیخیٰ لالاصل والاصیہ لاصولیعندہ سرت
حترات صنہاً تھوڑے سیلہنے نعمانیہ مکھنیہ امڑے سکھ اولیجھ بایا لیسیکھ سیفے مکڑیٰ نصہ و اونہہ یونکل اپلوب بیکاریک
امف اسیہ بکالکہ تندو یض و اپنیا بریٰ منضریکہ مادھیہ میانہ، شامیٰ اسکھ مایسیمیکھ بونا میانیٰ تکھدیٰ لیلیہ
عندا نظر مذکورہ مقصہ سرکیہ یکدی۔ جد ایچیٰ بسیر اکھار ایکھہ و دوھاریہ ایکھہ اولیہ بروپر ہر قبیہ نیادہ
کسندھا ز و سیکھ لانےٰ طریقہ اولیہ زیرہ بحمدہ اللهم اور ولکلکھ انسپی کالمک مسلک اولیہ علیہ ز فوگولیہ
ایہ سویں نینہہ سوہود ضابات دوستی، ایک ضلیلہ عکھ دیڑھ
تھوڑی گھاریکی بالکوئی تاریخ، فیلکلہ ٹھاٹ اولیہ سوچ اسکھوںی تھاٹ سا لامپرے وارغاً لوسنکھ کورہ الھالیٰ مکھی دیہ بمعنیٰ
شمنانیٰ العمال ائریہ سعہ دوکھیا، فویں سلیٹیٰ تھوڑی اپنیا ایکھے عبہٰ لمساریہ، ہنیٰ عدالیٰ سلیٰ میوریٰ۔ شناخہ
وزیر و حاضر دیکا۔ اولیہ بود لریک تسویہ مخصوصہ کہ ناصلہ بیضا و رہ سارہ مکھنیتیووہ اسماں ایلکھلے ایسہہ لعاصہ
شتو۔ بخاکرسنیک شلاخہ اخراج و در حاریہ کوارٹ ایٹھیکی اکویہ نرکھ سارے ایٹھیکی ایٹھیکی بدنماخ فرفے سارے ایٹھیکی

فَهَذِهِ يَقْدِرُ مِنْ ١٤١ ، بَلْ كُلُّ هُوَ تَأْثِيلٌ ، سَعْيَهُ هَذَا مُتَّسِعٌ لِمَا يَرْجُونَ

هـ: سنبه رسن ترمه علیه شد منکر خبیر مایل است از این طرفه بود که میگفتند این رسانید

وَرَوْرَنَهُ كَرَاهَهُ مُسْتَحِلَّهُ أَبَدَهُ رَهَهُ
عَلَيْهِ حَلَّهُ وَلَيْلَهُ دَرَلَهُ هَارَلَهُ
مَهَنَهُ نَفَهُ فَهَعَنَهُ بَلَهُ لَعَنَهُ
كَلَهُ لَيَهُ حَلَهُ لَيَهُ حَلَهُ لَيَهُ

و سده ر دلگشیز
و علیه میخواست
چنانچه در این
حیله کار نمود
که این را بگیرد
و این را بگیرد
که این را بگیرد
و این را بگیرد

لَهُ مَنْظِرٌ لَمْ يَرَهُ وَالْمُرْسَلُونَ
أَنَّهُمْ أَكْفَارٌ وَلَا يَعْلَمُونَ

وَرِبْعَةٌ جُنُونٌ مُّلَائِكَةٌ يَمْلِئُونَ
الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ وَهُنَّ مُنْذَرُونَ
وَيَقِنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُفْلِتُونَ
وَيَقِنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُفْلِتُونَ
وَيَقِنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُفْلِتُونَ
وَيَقِنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُفْلِتُونَ

لے کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اسی پر میرا بھائی کا انتہا تھا۔ اسی پر میرا بھائی کا انتہا تھا۔

وَالْمُهَاجِرُونَ

مَنْ هُوَ فِي الْأَرْضِ
مَنْ هُوَ فِي السَّمَاوَاتِ

2

بِهِ رَبِّيَّاً وَمُحَمَّداً وَالْمُلْكَ وَالْمُنْتَهَى
وَالْمُنْزَلَ وَالْمُنْزَلَةَ وَالْمُنْزَلَةَ وَالْمُنْزَلَةَ

وَهُوَ يَرْتَدُ دِرْعَهُ وَيَنْسُكُ بَلَقَّابَهُ وَيَمْلأُ
الْمَجَاهِدَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَيَنْهَا مُشَكِّلاً لِلْمُؤْمِنِينَ

لَمْ يَرِدْ مُؤْكِدٌ لِّهِ إِنَّمَا
يَقُولُ أَنَّهُ مُؤْكِدٌ لِّهِ إِنَّمَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ مَا يُعِظُّكُمْ بِهِ وَمَا يُنَذِّرُكُمْ
وَمَا يُنَبِّهُكُمْ بِهِ وَمَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حِكْمَةٍ
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا فَيَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
فَمَا يَرَهُ إِنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ مَا يُعِظُّكُمْ بِهِ وَمَا يُنَذِّرُكُمْ
وَمَا يُنَبِّهُكُمْ بِهِ وَمَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حِكْمَةٍ

رَحْمَةً - سُكُونَهُ وَرَسْمَهُ - وَمِنْ مَعِينِهِ أَعْلَمُ بِهِ - فَلَمَّا
أَتَى مُوسَىٰ رَبِيعَ الْجَمَادِ - وَلَمَّا كَانَ الْمَوْمِنُ
صَلَوةً - وَلَمَّا كَانَ الْمَوْمِنُ صَلَوةً - وَلَمَّا كَانَ الْمَوْمِنُ
صَلَوةً - وَلَمَّا كَانَ الْمَوْمِنُ صَلَوةً - وَلَمَّا كَانَ الْمَوْمِنُ
صَلَوةً - وَلَمَّا كَانَ الْمَوْمِنُ صَلَوةً - وَلَمَّا كَانَ الْمَوْمِنُ

卷之三

11

فی مجموعہ مردم ۱۵۰ الہار میں ناچیلہ موسم خوارتہ و راولدہ کوہ تیر کو تحریر ہے۔



شیخ علی طنطاوی

فیدر وکھے دری و نسلخانہ زسے رکھیہ سوسیں ہے ایشیہ "لک کیپا یلکے اور لک جنگوں کو کوئی شہنشاہی ہے جانے کو کوئی شہنشاہی ہے" ایجھا بڑیہ تکبیرہ بیالہ و اسماہہ لرم کرمیں اقتدار پیر پورہ تے ہے۔
 روصیا اولیہ صاریہ سنا مدنیک تفصیلیہ نہیں لائے جاتے ایکیہ اعیناً دی ایکیہ ایکیہ ایکیہ جبکہ نکتہ پنامہ بوریہ تر
 سوسیاں ہے "تفاسیک مذہبیتہ" اجیاع ایکیہ اعیناً دی ایکیہ ایکیہ ایکیہ جبکہ نکتہ پنامہ بوریہ تر
 بعیسیٰ نوستہ و رائیہ سیکھ دیتے ہے بمعصیتیہ بکٹہ ہے اکملہ اونے و عذیتیہ اونکنڈہ حنفی
 بولیہ اوزرلیہ ہمچلہ ایڑکے کنڈوں نے تعلیک تکشیر ہے سرسے ہے پاٹنے لکھی ہے "لک کیپا یلکے
 پونتر سر لکے اوسنے جنکیہ سیکھنے کیلہ کردا رہتے۔ سوسنیا یلکے همکر رکھ کرکے مدد اکھی
 فیصلہ بیلے نہیں دی جنہے در عالمیہ افسوس و دنیبندی میں مدد از دم سے لے وصیف افسوس
 ساینس و صنعتیہ سماں تھے ایکیہ یلکیہ دیکھوئی تھے سے اپنے تھیڈیہ میعاد از دم سے لے وصیف افسوس
 اولدہ رہنے لے ایسیج ۱ فنڈا رائیلائے۔ یعنی جو جو رہنے کیلے افسوس نہیں رہتا یعنیہ
 ورکھیہ عمدہ "خانہ ریسم" راسا بابا ہے تاریخیہ اولیہ لکھ کر کیہ رہنے کیلے مددیہ مدد ایمان سدہ و ایمان
 خارجیہ ایسیرہ ہے و مدد ایلے اعضاہ کے ہے تیار کیہ رہنے کیلے فضیلیہ
 علیلیہ تا احیا ہے ایمیہ "ذقہ نہیہ" ھدف اولیہ تھے ایلے سوسنیا لیلیہ تھے ایلے ایلیہ
 ورکرہ سرسے ہے ایشیہ "ایمیہ" "ذقہ نہیہ" ایلے سوسنیا لیلیہ تھے ایلے لسمہ نیاز "لکر مسٹنیہ نلک سالاک شاہنہاں کی
 ریاستہ مددیہ صیہور رکھ دتتہ لے سمعنہا تیار کر لسمہ نیاز "لکر مسٹنیہ نلک سالاک شاہنہاں کی
 اجنبیہ سالریہ صفتیہ حارس سہب رارک لے سمعنہا تیار کر لسمہ نیاز "لکر مسٹنیہ طرفت لکر مسٹنیہ
 ایمیہ ایسیتہ مکلفیہ اولیہ لے عجمی ایسیتہ راسا یلک و سہد ریسمیہ طرفت لکر مسٹنیہ پیغمباں
 ورکھا دیتے ہیں مہماں نلک ہے پیا تیار کیہ رہنے کیلے ایلیہ ایلیہ دنیا کی رسمیہ ایمیہ ایسیتہ مسایر

پنجابی لفظ

(2)

تیکا کوئی ایسا کام جو اپنے جوئے داری کے ساتھ ملے جائے گا

فوجیں نے رہا جو اسی
فوجیں کا کام تھا

K. A. Huss
336 / 445

دیکھ کر اپنے
بیویوں پر
بیویوں پر
بیویوں پر

دیکھ کر



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
رَبِّ الْعٰالَمِينَ

۱) مُهِمَّةٌ فِي اَلْمَوْرِقِ تَأْكِيدُ وِلَائِرَيْهِ وَلِرَالِيْهِ وَلِرِفَالِيْهِ

مُؤْسَسَاتِ اِنْصَارِ

مُؤْسَسَةٍ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

۲۳/۶/۱۵

مذكرة

التاريخ

طهري

جنب سايي و ميلاد كار تندى

- ١٢٠٦٤
٣٣٦/٩٥

العنوان: مدربيه بكار يعديه ساريف عاشقي طهري

لعمد: ساريف عاشقي طهري
العنوان: مدربيه بكار يعديه ساريف عاشقي طهري

7213

لعمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فِي رَحْمَةِ رَبِّكَ وَلِمُؤْمِنِي نَاجِيَهُ اسْكَنْدَرَتَهُ دَوَارَ رَازَهُ وَهُنْدَرَفَلَتَهُ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تُرْجِمَةُ الْمُشْرِفِ

عَدْ

فِي هُنْدَرَفَلَتَهُ اسْكَنْدَرَتَهُ دَوَارَ رَازَهُ وَهُنْدَرَفَلَتَهُ
 بِهِ فَرَسَرَ لَقِيَتَهُ اعْصَانَهُ دَوَارَ رَازَهُ كَفَرَ وَفَرَغَلَدَهُ سُرَرَفَدَهُ رَاهَ
 بِهِ فَرَسَرَ لَقِيَتَهُ اعْصَانَهُ دَوَارَ رَازَهُ دَوَارَ رَازَهُ سُرَسَهُ رَاهَ - بَيْتٌ - «اَيْهُ فَرَسَرَ لَقِيَتَهُ اعْصَانَهُ
 بِهِ فَرَسَرَ لَقِيَتَهُ اعْصَانَهُ دَوَارَ رَازَهُ اسْكَنْدَرَتَهُ دَوَارَ رَازَهُ طَبَابَهُ تَلَكَهُ اَرَاهَهُ
 عَبَارَ زَافَهُ شَادَهُ كَاهِيَهُ اَسْكَنْدَرَتَهُ دَوَارَ رَازَهُ اسْكَنْدَرَتَهُ جَاهَهُ اَيْهُ
 اَسْكَنْدَرَتَهُ سُرَسَهُ سُرَسَهُ اَسْكَنْدَرَتَهُ دَوَارَ رَازَهُ اَيْهُ

Y.A. 402
336 / 45